

wɔ ɔgba-idɛra eyiti awɔn odo nʃan nisalɛ rɛ, nwɔn o si ʃe gberɛ sinu rɛ lailai. Dajudaju Ɔlɔhun ti pese ti o dara julɔ fun u.

12. Ɔlɔhun ni Ɖniti O da sanma meje ati iru wɔn ni ilɛ. O si nsɔ aʃɛ kalɛ larin wɔn ki ɛnyin le mɔ pe dajudaju Ɔlɔhun ni Alagbara lori gbogbo nkan, atipe dajudaju Ɔlɔhun fi mimɔ Rɛ rɔkirika gbogbo nkan.

(66) Suratul - Tahrimi

*Ni orukɔ Ɔlɔhun Ajɔkɛ aiyɛ,
Aʃakɛ ɔrun.*

1. Irɛ Annabi, kiniʃɛ ti o sɔ nkan ti Ɔlɔhun ʃɛ lɛtɔ fun ɔ di ɛwɔ (fun ra rɛ)? Irɛ fi nwa idunnu awɔn iyawo rɛ? Ɔlɔhun jɛ Oludarijini, Onikɛ.

2. Dajudaju Ɔlɔhun ti ʃɛ ofin fun nyin bi ɛ ti mǎ moribɔ ninu ibura nyin; Ɔlɔhun si ni Oluranlɔwɔ nyin, On si ni Onimimɔ, Olɔgbɔn.

3. Atipe nigbati Annabi ba ɔkan ninu awɔn iyawo rɛ sɔ ɔrɔ ni ipamɔ, nigbati oniyɛn sɔ ɔ (fun ɛlomiran), Ɔlɔhun si fi on han a (Annabi). On (Annabi) fi apakan mɔ ɔ, o si fi apakan pamɔ Nitorina nigbati on sɔ ɔ fu u; (iyawo rɛ) o sɔpɛ: Tani o sɔ eyi fun ɔ?. O sɔpɛ:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٦٦﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَيَّنَّا لِلنَّبِيِّ لِمُحَرَّمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْلِغِي مَرَضَاتَ أَرْوَجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

قَدْ فَضَّ اللَّهُ لَكَ نُجْلَةً أَيْمَنِيكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَجِهِ حَلِيئًا فَلَمَّا بَيَّنَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا بَيَّنَّاهَا بِهِ قَالَ مَنْ أَبْأَلَكَ هَذَا قَالَ بَنَاتِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾

(Qlōhun): Oni-mimq, Alamqotan ni O sq fun mi.

4. Ti ɛnyin (iyawo rɛ mejɛji) ba ronupiwada lq ba Qlōhun, qkàn ɛnyin mejɛji pāpā tɛ si siɛ eyi; ti ɛ ba si ran ara nyin lqwo si (Annabi), Dajudaju Qlōhun ni Oluranlqwo rɛ ati Jibrilu ati awon oniwa rere ninu awon olugbagbo ododo ati awon Malaika ti nwon jɛ oluranlqwo lɛhin eyi.

5. O leɛ Oluwa rɛ yio firɔpo fun u awon obirin (miran) ti won dara ju yin lq. Ti o (Annabi) ba kq yin silɛ. Awon (obirin miran) ti wonjɛ olupa-ofin-Qlōhun-mq, awon onigbagbo ododo, awon oluteleasɛ (Qlōhun), awon oluronupiwada, awon olujosin, awon gbawɛgbawɛ, awon adelebq ati wundia.

6. ɛnyin ti ɛ gbagbo ni ododo, ɛ gba ara nyin lā ati awon enia nyin nibi ina ti o jɛ pe awon enia ati awon okuta ni a fi nko o; awon Malaika ti o ni ipa ati agbara ni oluɛsq rɛ, nwon ki yi aɛsq Qlōhun ti O ba pa fun won pada, nwon a si mā mu aɛsq ti a ba pa fun won ɛsq.

7. ɛnyin alaigbagbo, kò si aròye kankan (awawi) fun nyin loni, dajudaju a o san ɛsan iɛsq ti ɛ ɛsq fun nyin nikan ni.

إِن نُّوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلٌ وَصَلِيْحٌ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظٰهِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

عَسَىٰ رَبُّهُٓ اِنْ طَلَّقَكُنْ اَنْ يُبَدِّلَهٗ اَوْ رَجٰحِيْرًا مِّنْكَنْ مُّسَلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قَنِيْطٍ تَبَيَّنَتِ عِيْدٰتٍ سَبِيْحَتٍ تَبَيَّنَتِ وَاَبْكَرًا ﴿٦٧﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّفُوْدهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلٰظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهًا مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْبُدُوْا الْيَوْمَ اِنَّمَا تَبْجُرُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

8. Ẹnyin ti ẹ gbagbọ ni ododo, ẹ ronupiwada lọ ba Ọlọhun ni ironupiwada ti otitọ. O le jẹ pe Oluwa nyin yio pa ẹṣṣ nyin rẹ fun nyin ki O si fi nyin wọ sinu ọgba idẹra eyiti awọn odo nṣan nisalẹ rẹ, ọjọ ti Ọlọhun kò ni dojuti Annabi ati awọn ti o gbagbọ ni ododo pẹlu rẹ. Imọlẹ wọn yio ma tan niwaju wọn ati ọwọ-ọtun wọn, nwon yio sope: Oluwa wa, ẹ imọlẹ wa ni pipe fun wa ki O si dariji wa, dajudaju Irẹ ni alagbara lori gbogbo nkan.

9. Irẹ Annabi, mã sapa le awọn alaigbagbọ ati alagabagebe lori, ki o si le kókó mọ wọn lori; ina Jahannama ni ibugbe wọn, apadasi buru ni.

10. Ọlọhun fi apejuwe lelẹ fun awọn ti kò gbagbọ, iyawo Nuha ati iyawo Lutu. Awọn mejěji wa labẹ awọn ẹrusin Wa meji ti nwon jẹ oniwa rere, (awọn obirin mejěji) nwon ẹ jamba fun (awọn ọkọ) wọn, awọn mejěji (bale wọn) kò si rọ wọn lẹrọ nkankan lọdọ Ọlọhun, asisọ fun awọn mejěji pe: Ẹ wọ ina pẹlu awọn ti o wọ ina.

11. Ọlọhun si tun fi apejuwe lelẹ fun awọn onigbagbọ ododo nipa iyawo Firiaona nigbati o sope: Oluwa mi kọ ile kan fun mi ni ọdọ Rẹ sinu ọgba idẹra atipe ki O

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا
عَسَىٰ رِزْقُكُمْ اَنْ يَّكُوْفَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُم مِّنْ حَنَنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مَعَهُ ۗ تُوْرُهُمْ يَسْعٰى بِرِكَ اَيْدِيْهِمْ وَيٰۤاَيُّمَنِيْمٍ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ لَنَا نُورٌ وَّاَغْفِرْ لَنَا
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٨﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِسِ الْمَصِيْرِ ﴿٩﴾

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَمْرٰتٌ نُّوحٌ
وَاَمْرٰتٌ لُّوْطٌ كَانَتَا تَحْتَ عِبْدِيْنَ مِنْ عِبَادِنَا
صٰلِحِيْنَ فَاَخٰنَتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ
شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿١٠﴾

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَمْرٰتٌ
فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّى لِيْ عِنْدَكَ بِيْتًا
فِي الْحَنَةِ وَيَجِيْى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَيَجِيْى
مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾

gbami la lõwọ Friaona ati işe rẹ, atipe ki O gbami la lõwọ awọn ijo alabosi.

12. Atipe Mariyama ọmọbirin Imrana ti o şo abẹ rẹ, A si fẹ (si ara rẹ) ninu ẹmi Wa, o si gba lododo ọrọ Oluwa rẹ ati awọn tira Rẹ o je ọkan ninu awọn ti o tẹle aş.

(67) *Suratul - Mulki*

*Ni orukọ Qlọhun Ajọkẹ aiyẹ,
Aşakẹ ọrun.*

1. Ibukun ni fun Ẹniti ijo ba wà ni ọwọ Rẹ, atipe On ni Alagbara lori gbogbo nkan.

2. Ẹniti O da iku ati wiwa lāyẹ ki O le ba dan nyin wò; èwo ninu nyin ni yio şe işe rere julọ, atipe On ni Alagbara, Alaforiji.

3. On ni Ẹniti O da sanma meje ni ipélé (kan lori) ipélé (kan), o kò le ri ipakasọ ninu ẹda (Ọba) Ajọkẹ aiyẹ. Nitorina tun wo o yida: Njẹ o le ri lila pẹpẹş kan bi?

4. Lẹhinna ki o tun wõ yida lẹşemeji si, iriran na yio si pada si ọdọ rẹ ni ti yiye pẹş on na yio di alārẹ. (kúrẹ).

5. Atipe A ti şe sanma aiyẹ ni oşo pẹlu awọn atupa A si şe (awọn atupa na) ni òkò asọbade fun awọn

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ ﴿٦٧﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ بِكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ﴿٢﴾

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِرًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

وَلَقَدْ رزقنَا السمآةَ الدنيا بمصبيحٍ وجعلنآها رءومآ للشيطآنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السعيرِ ﴿٥﴾